

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the
Nation



ڈومیسٹک سیزن 2019-20 کے لیے معیاری پچز کی تیاری جاری

- سیزن کے آغاز سے قبل ملک بھر میں کیوریٹرز کے لیے ریفریشر کورسز کا اہتمام
- ایک دہائی کے بعد بگٹی اسٹیڈیم کوئٹہ میں میچز کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا
- زراعت اور مٹی کے ماہر افراد پچز کی نگرانی میں معاونت کریں گے، چیف کیوریٹر پی سی بی آغا زاہد

لاہور، 11 ستمبر 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ڈومیسٹک سیزن 2019-20 کے لیے معیاری پچز تیار کی جارہی ہیں۔ آئندہ ڈومیسٹک سیزن 14 ستمبر سے 24 اپریل تک جاری رہے گا۔ جس میں قائد اعظم ٹرافی، قومی ٹی ٹوٹی کپ اور پاکستان کپ ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے مقابلے ہوں گے۔ نئے ڈومیسٹک سیزن کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پچز کی تیاری موسم گرما کے آغاز سے شروع کر دی گئی تھی۔ چیف کیوریٹر پی سی بی آغا زاہد کا کہنا ہے کہ ملک میں 10 مہینے گرمی کا موسم رہتا ہے اس لیے ہم گراؤنڈز کی تیاری میں گرم موسم کے گھاس کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچز کی تیاری کے لیے 15 اپریل سے مئی کے اختتام تک کا وقت موزوں ہوتا ہے۔

ڈومیسٹک سیزن 2019-20 میں تمام ایسوسی ایشن کی کرکٹ ٹیموں کو ہوم اینڈ اوے کی بنیاد پر میچز کھیلنے ہیں۔ ملک بھر کے کرکٹ سنٹرز میں میچز کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پی سی بی کیوریشن ڈیپارٹمنٹ نے ریفریشر کورسز کا انعقاد کیا ہے۔ ریفریشر کورسز میں شرکاء کو متوقع چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی سے آگاہ کیا گیا۔ سنٹرل پنجاب، سدرن پنجاب، ناردرن، سندھ، بلوچستان اور خیبرپختون خواہ کرکٹ ایسوسی ایشنز میں کام کرنے والے تمام پچ کیوریٹرز نے

ریفریشر کورسز میں شرکت کی۔ پی سی بی کے چیف کیوریٹر آغا زاہد نے تمام اسٹاف پر واضح کیا کہ پی سی بی کے نئے ڈومیسٹک کرکٹ اسٹرکچر میں پچز اور گراؤنڈز کی تیاری اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ٹیموں کے کھلاڑیوں کو بہترین اور یکساں معیار کی پچز کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں تاکہ شائقین کرکٹ بہترین کھیل سے محظوظ ہوسکیں۔

چیف کیوریٹر پی سی بی آغا زاہد کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی نئی انتظامیہ نے پچز کے معیار کی بہتری کو ترجیح دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک سیزن میں مقابلے کی فضا بڑھانے کے لیے پی سی بی کیوریٹن ڈیپارٹمنٹ میں تعلیمی قابلیت اور وسیع تجربہ رکھنے والے افراد کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب پی ایچ ڈی اور ایم فل کی تعلیم یافتہ افراد ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ آغا زاہد نے بتایا کہ ملک کے ہر بڑے سنٹر میں سوئل سائنسدان اور اگرا نومسٹ سمیت ماہر افراد گراؤنڈز اور پچز کی تیاری میں پی سی بی کیوریٹرز کا ساتھ دیں گے۔

پی سی بی کیوریٹن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے 15 اپریل سے گراؤنڈز میں اسکوائر تیار کرنے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ چیف کیوریٹر آغا زاہد کا کہنا ہے کہ پچ کی تیاری کے کام میں کوئی چھٹی نہیں ہے، یہاں موسم سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگر مون سون کا موسم طول پکڑ لے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ اسکوائر فٹ پر مشتمل قذافی اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دہائی بعد کوئٹہ میں ڈومیسٹک میچ کے کامیاب انعقاد کی امید ہے۔

2 سال قبل قذافی اسٹیڈیم لاہور اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے پورے گراؤنڈ پر گھاس اگا دیا گیا تھا تاہم سیزن 20-2019 کے آغاز سے قبل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کے گراؤنڈ کو بھی مکمل گھاس سے کوور کر دیا گیا ہے۔ چیف کیوریٹر پی سی بی کے مطابق جدید طرز پر پچز کی تیاری کے لیے افرادی قوت کے ساتھ ساتھ مشینری کا استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ڈومیسٹک سیزن کے لیے تمام وینیز پر استعمال کردہ پچز کو نندی پور کی مخصوص مٹی سے تیار کیا گیا ہے جبکہ اسٹیڈیم میں بچھائی گئی ڈھاکہ گھاس کی کٹائی کا عمل بھی جدید مشینری سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ آغا زاہد نے کہا کہ پی سی بی کے پاس غیر متوقع بارش سمیت موسم کی بدلتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سپر سوپرز اور وکٹ موورز سمیت جدید مشینری دستیاب ہے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk 
[@therealpcb](https://www.instagram.com/therealpcb) 
[@PakistanCricketBoard](https://www.facebook.com/PakistanCricketBoard) 
[@PakistanCricketOfficial](https://www.youtube.com/PakistanCricketOfficial) 
[@therealpcb](https://www.tiktok.com/@therealpcb) 

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4